

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی

11-04-2020

پریس ریلیز

کووڈ 19 تالا بندی : جامعہ میں دوسرے فیکلٹی ڈیولپمنٹ ویبنر پروگرام کا آغاز

جامعہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے آن لائن دروس کے لئے چار صلاحیت سازی کے پروگراموں کا انعقاد کیا۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فیکلٹی ممبروں کے لئے دو روزہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ ویبنر پروگرام کا دوسرا بیچ آج (11-12 اپریل 2020) کو شروع ہوا۔ صبح 10 بجے یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے اس کا افتتاح کیا۔

رجسٹرڈ شرکا کو ای دعوت نامے بھیجے گئے تھے جن میں ڈینز ، ڈائریکٹرز ، ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹس ، پروفیسرز 225 اور دیگر فیکلٹی ممبران نے اس آن لائن ویبنر پروگرام میں شرکت کے لیے اندراج کیا تھا ۔

پروگرام کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تمام لوگوں کے لئے چند منٹ کی تاخیر کے ساتھ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اس اسٹریم لنک کو یونیورسٹی کے ایف ٹی کے سنٹر فار انفارمیشن اینڈ ٹکنالوجی نے فیکلٹی ممبروں اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے بھی شیئر کیا ہے ۔

انتہائی کامیاب پہلے بیچ کے بعد ، یونیورسٹی نے مزید تین ویبنر بیچ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسی کا یہ ایک حصہ ہے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے آن لائن تعلیم کے لئے چار بیک ٹو بیک صلاحیت سازی کے پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ اب تک کسی اور یونیورسٹی نے اتنے بڑے پیمانے پر ایسی پہل نہیں کی ہے۔

یونیورسٹی بہت جلد دیگر یونیورسٹیوں کے شرکاء کے لئے بھی آن لائن فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کرے گی۔

پہلے بیچ کے شرکاء سے آراء حاصل کرنے کے بعد ، فیکلٹی ممبروں کو آن لائن کلاسوں کے انعقاد میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لئے دو مزید پریکٹس سیشنز کا بھی اہتمام کیا گیا۔

فیکلٹی ممبران کے تقاضوں اور دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن تعلیم و تعلم کے لئے مزید دو ویبنرز کا منصوبہ 16-15 اپریل اور 18-19 اپریل 2020 کو بنایا گیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تمام فیکلٹی ممبروں پر ویبنرز میں اندراج کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ 'پہلے آئیں' <https://forms.gle/ibqqSW9aG81DPUU59> کو پہلے پائیں' کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پہلے آنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔

پہلے بیچ کے شرکاء نے کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن پابندیوں کو اپنانے اور تعلیمی امکانات کو زیادہ سے زیادہ موثر بنانے کے لئے آن لائن پلیٹ فارم کا مؤثر طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔

ڈین ، اور دیگر شعبہ جات کے سربراہان سمیت متعدد عہدیداروں نے پہلے بیچ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے عملے کے ساتھ آن لائن ملاقاتیں کیں۔

پروفیسر ارچنا دسی ، صدر ، شعبہ سوشل ورک نے منتظمین سے اپنے خطاب میں کہا ، "میں نے بغیر کسی دشواری کے آن لائن میٹنگ کا اہتمام کیا میرے تمام ساتھی جن میں مہمان اساتذہ بھی موجود تھے اس میں شامل ہوئے۔ اس میں حصہ لینے والے 24 ممبران تھے ، ہماری میٹنگ ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی۔ ہم اپنے فیلڈ ٹریننگ پروگرام ، ریسرچ مقالوں کے ساتھ ساتھ مڈ سمسٹر امتحانات سے متعلق کچھ اہم فیصلے لے سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس تربیت نے ہمیں مثبت نتائج دکھائے ہیں۔ صلاحیت سازی کے اس پروگرام نے ہمیں بحران کی اس گھڑی میں اپنے ساتھیوں اور طلباء تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں وی سی میڈم ، پروفیسر فرقان اور ڈاکٹر ایس کے نقوی کے ساتھ اپنی سی آئی ٹی ٹیم کے ساتھ اس ایف ڈی پی کو سمجھنے اور منظم کرنے پر مشکور ہوں ۔"

پروفیسر صباح خان ، شعبہ مکینیکل انجینئرنگ نے کہا ، "آج میٹ پر میری پہلی کلاس تھی اور میں نے طلباء کی طرف سے بہت مثبت ردعمل پایا۔ ایف ڈی کے سنٹر برائے انفارمیشن اینڈ ٹکنالوجی نے پہلے بیچ کے شرکاء کے لئے تکنیکی فکرمندیاں دور کرنے اور انہیں استعمال میں راحت پہنچانے کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یقیناً قابل تحسین و تقلید ہے۔"

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر